



The City School

حصہ اول

تفہیم

کل نمبر: ۲۵

آپ نے کبھی تھکے تھکے چھروں پر غور کیا ہے؟ اچھے سے اچھا کھانے کے باوجود ان پر رونق نہیں ہوتی۔ بدن تھکا ہوا، طبیعت میں اکتا ہے، دل میں بے چینی، زبان پر کڑوا ہے۔ یہ ہمارے سماجی مسائل کا نتیجہ یا عمل نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ فطرت سے دور ہو گئے ہیں۔ فطرت سے دوری اور مصنوعی زندگی نے ہماری شخصیت کو مسخ کر دیا ہے۔ ہماری زندگی کی ساری رونقیں ہمارا صحت مند ما جوں ہے؟ مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارے گھر تو قید خانے ہیں۔ قسمی پردوں سے بچ، نفس قالینوں سے آراستہ یہ گھر جوتا زہ آسیجن کے دشمن ہیں دراصل یہی وہ گھر یا اور علاقائی ما جوں ہے جو ہماری صحت کا دشمن ہے۔ اگر ہم باغوں میں جائیں، درختوں سے پیار کریں تو زندگی کا صحت مندانہ رو یہ اپنا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ طرز رہائش میں تبدیلی کی وجہ سے ہمارے مکانوں کا نوے فیصل حصہ ڈھکا ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے ہم آسیجن اور روشنی کے کھلے راستے پہلے ہی بند کر چکے ہوتے ہیں اور دروازوں اور کھڑکیوں پر پردے ڈال کر ہم ان کا بقیہ دس فیصل راستہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں اسی طرح کسی کمرے میں جانے کااتفاق ہو تو محسوس ہو گا کہ کمرے میں جس اور گھٹن کا ما جوں ہے اور روشنی بھی کم ہے جس کی تلافی مصنوعی روشنیوں سے کی گئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آسیجن ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے اور دھوپ کے بغیر بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ آسیجن سے ہمارے جسم کا خون صاف ہوتا ہے، جبکہ دھوپ گھروں سے جراثیم صاف کرتی ہے۔ آپ نے جانوروں اور پرندوں کو دھوپ میں پاؤں اور پر پھیلائے ہوئے لیٹا کئی بار دیکھا ہوگا۔ کیونکہ انہیں قدرت کے اس انمول خزانے کی افادیت کا احساس ہے۔ ما جوں میں خراب گیسوں اور رطوبت کی کثرت بھی انسانوں کی صحت بر باد کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں فطرت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے صحت مند طرز رہائش اپنانا چاہیے۔ جن گھروں میں گرمیوں کے موسم میں بیشتر وقت اسی چلتے رہتے ہیں ان گھروں کے باسیوں کی طبیعت بوجھل رہتی ہے اور وہ ہڈیوں کے درد میں بیتلہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح دھوپ اور گرمی سے بچنے کے لئے دروازے بھی بند رکھے جاتے ہیں اور کھڑکیوں سے پردے بھی نہیں ہٹائے جاتے۔ دن میں سورج کی روشنی کی بجائے برقی روشنیوں کے مسلسل استعمال سے بینائی متناہر ہوتی ہے۔

مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر پر بچھئے۔

۱۔ فطرت سے دور ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی کس طرح متناہر ہوئی ہے؟

/۲

۱/۲

۲۔ کس قسم کا ماحول انسانی صحت کا دشمن ہے؟

۱/۲

۳۔ ہمیں اپنی صحت بہتر بنانے کے لیے کس طرح کا طرز زندگی اپنا ناچاہیے؟

۱/۳

۴۔ سورج کی روشنی سے استفادہ کرنے کے بجائے برقی روشنیوں سے مستفید ہونے کا کیا مطلب ہے؟

۱/۳

۵۔ آکسیجن اور دھوپ ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کیسے؟

۱/۲

۶۔ درج بالا اقتباس کا مناسب عنوان تحریر کیجئے۔

۱/۳

۷۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنانے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کوئی سی تین تجاویز دیجئے۔

۱/۲

سوال نمبر ۲: درج ذیل اردو الفاظ کا انگریزی ترجمہ لکھیں۔

انگریزی	اردو	نمبر شمار
	بے چینی	۱۔
	جرائم	۲۔
	دشمن	۳۔
	روشنی	۴۔

۱/۳

سوال نمبر ۳: درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔

جملے	الفاظ	نمبر شمار
	نقسان	۱۔
	تحقیق تحقیق	۲۔
	جبس	۳۔
	ر عمل	۴۔



حصہ چہارم

اشاء پردازی

کل نمبر: ۲۵/

سوال نمبر:

۱۵/

درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر (۱۵۰) الفاظ کا معیاری مضمون تحریر کیجئے۔

۱۔ اُف! یہ مہنگائی اور ہم بے چارے

یا

۲۔ سُب بُنی سے نوجوان نسل کی دوری! ایک سوال یہ نشان؟

۱۰

سوال نمبر: ۲ دو دوستوں کے درمیان کتابوں کی خریداری پر مکالمہ تحریر کریں۔ (حد الفاظ ۲۰۰)

یا

اپنے دوست یا سہبی کے نام خط تحریر کریں اور اسے بتائیں کہ تعلیم میں جدید ٹکنالوجی کی کیا اہمیت ہے۔
